

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی

پریس ریلیز
18 ستمبر 2020

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں "پائنتھون پروگرامنگ" پر فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صد سالہ تقاریب کے ایک حصے کے طور پر ، یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر انجینئرنگ نے 30 اگست سے 06 ستمبر 2020 تک گوگل میٹ کے ذریعے پائنتھون پروگرامنگ پر ایک ہفتہ طویل فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام (ایف ڈی پی) کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا انعقاد اسپوکین ٹیوٹوریل ، آئی آئی ٹی بمبئی کے تعاون سے کیا گیا تھا۔

اس پروگرام میں پورے ملک سے تقریباً 189 لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سمیت دیگر اداروں کے اسسٹنٹ پروفیسرز حضرات کے علاوہ ریسرچ اسکالرز اور جے این یو ، ڈی ٹی یو ، اے ایم یو ، ڈی یو ، این آئی ٹی دہلی اور آئی آئی ٹی بمبئی وغیرہ جیسے اداروں کے طلباء بھی شریک تھے۔

اس پروگرام کے ذریعے آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن سیکھنے کے طریقوں پر لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ، آئی آئی ٹی گاندھی نگر ، این آئی ٹی دہلی کے ساتھ ہی آئی آئی ٹی دہلی کے ماہرین نے آن لائن لیکچرز کے ذریعے پائنتھون پروگرامنگ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔

شرکاء کو سیلف لرننگ آف لائن ویڈیو پر مبنی ماڈیول بھی فراہم کیا گیا، جس میں بنیادی پائنتھون پروگرامنگ کے بارے میں بتایا گیا۔ انہیں دن میں کبھی بھی ان ویڈیوز کو دیکھنے اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر اسائنمنٹس جمع کروانے کی آزادی تھی۔

ایف ڈی پی ممبران نے جوش و خروش سے ان سرگرمیوں میں حصہ لیا اور مستقل اور بروقت اپنے اسائنمنٹس پیش کئے ۔

اس ایف ڈی پی کے آخری دن پروفیسر ابراہیم ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی جامعہ ملیہ اسلامیہ ، ڈاکٹر شیما ایئر ، نیشنل کوآرڈینیٹر سپوکن ٹیوٹوریل آئی آئی ٹی بمبئی نے شرکت کی ۔ پروفیسر تنویر احمد ، ایچ او ڈی کمپیوٹر انجینئرنگ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کلمات تشکر سے پروگرام کا اختتام ہوا۔

احمد عظیم
پی ار او میڈیا کوآرڈینیٹر